


جانباڻي ڪه ٻار ڪه مٿي ٻاڻي ڪرڻا

Parlando di famiglia



✎ Espen Stranger-Johannessen
👤 Billie Cejka Risnes
📧 Yasir Tayab
3
🗣️ اورو / Italiano (it)



LIDA Stories

lidastories.net

جانباڻي ڪه ٻار ڪه مٿي ٻاڻي ڪرڻا / Parlando


di famiglia

✎ Espen Stranger-Johannessen

👤 Billie Cejka Risnes

📧 Yasir Tayab (ur), Andrea Ciasca Marra

(it)



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>



“کیا آپ کا کوئی خندان ہے؟”


...

“Hai una famiglia?”

“È una buona idea. Anch'io spero che i miei figli vadano all'università un giorno.”

...


→ مہرے کی امید ہے۔ مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔
 “کسی دن تو یونیورسٹی چاہیے گی۔”




“Sì, mio marito ed io abbiamo due figlie e un figlio.”

...

“جی ہاں، مہرے شوہر اور میں نے دو بیٹیوں اور ایک بیٹے ہے۔”





“میری بھی دو بیٹیاں ہیں، لیکن میں طلاق یافتہ ہوں۔”

...

“Anch’io ho due figlie, ma sono divorziata.”



“وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ

اسے یونیورسٹی جانا چاہیے۔”

...

“Lui vuole trovare lavoro, ma io invece gli dico di andare all’università.”

“Quanti anni hanno le tue figlie?”

...

“آپ کی بیٹیوں کی عمر کتنی ہے؟”




“Ottimo! Crescono così in fretta. Cosa vuole fare dopo?”

...

“بہت تیز بڑھ رہے ہیں اس لیے وہ کیا کرے گا۔”

“بہت اچھی بات ہے، جلدی سے بڑھ رہے ہیں، کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟”





“مید چر ہدل کی ہے۔ وہ نرسری اسکول جتی ہے۔ مریم دس
ہدل کی ہے، اس لیے وہ اسکول جتی ہے۔”

...

“Mina ha quattro anni. Va alla scuola
materna. Miriam ha dieci anni e va a
scuola.”



“میرے تھم بچے سکول میں ہیں۔ میرا بیڈا اگلے ہدل
گریجویٹ ہو جائے گا۔”

...

“Tutti i miei figli sono a scuola. Mio figlio si
diploma l'anno prossimo.”